

کامل طریقہ نماز
مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب

کامل طریقہ نماز

اس رسالہ میں

نماز کے فضائل، فرائض، واجبات اور مردوں اور
عورتوں کی نماز کا مکمل طریقہ الگ الگ تحریر
کیا گیا ہے

ترتیب

مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی
نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی

عنوانات

صفحہ

۷

تصدیق

۹

عرض مرتب

۱۱

اطاعت اور محبت

۱۳

بشارتیں اور خوشخبریاں

۱۳

گناہ معاف ہونا

۱۷

شہید سے پہلے جنت میں جانا

۱۸

جنت میں داخلہ کی ضمانت

۱۸

نماز پر جنت کا وعدہ

۱۹

نماز کی عظیم فضیلت

۱۹

نماز کی تاکید

۱۹

مکڑے مکڑے ہونے پر بھی نماز نہ چھوڑنا

۲۰

نماز چھوڑنا گھر لٹنے کے برابر ہے

۲۱

تین چیزوں میں تاخیر نہ کرنا

۲۱

دس باتوں کی وصیت

۲۲

حضور کی آخری وصیت

صفحہ	
۲۲	عتاب اور عذاب
۲۳	نماز نہ پڑھنا کفر کے برابر ہے
۲۳	بے نمازی کا کافروں کے ساتھ حشر
۲۴	فرض نماز نہ پڑھنے پر سر کچلنا
۲۵	دو کروڑ ۸۸ لاکھ سال جہنم میں جلنا
۲۶	بے نمازی کو پندرہ قسم کا عذاب سانپوں اور بچھوؤں کی وادی
۲۹	جماعت کی فضیلت و اہمیت
۲۹	جماعت کی نماز کا ثواب تین کروڑ سے زیادہ
۳۱	مسجد میں اہتمام جماعت سنت ہے
۳۲	دو پروانے
۳۲	جماعت کا ثواب ملنا
۳۳	ترک جماعت کا وبال
۳۳	ظلم، کفر اور نفاق
۳۴	گھروں کو جلانا
۳۴	جماعت چھوڑنے والا جہنمی ہے

سفر	خشوع و خضوع
۳۵	نماز کی دعا اور بدعا
۳۶	نماز میں سکون
۳۷	حداب سے حفاظت
۳۸	بدترین چور
۳۸	خشوع اٹھ جانا
۳۹	نماز کے فرائض
۴۰	نماز کے واجبات
۴۲	نماز کی سنتیں
۴۲	قیام میں ۱۶ سنتیں ہیں
۴۴	رکوع میں ۷ سنتیں ہیں
۴۵	قنومہ میں ۵ سنتیں ہیں
۴۵	سجدہ میں ۱۰ سنتیں ہیں
۴۷	قعدہ میں ۵ سنتیں ہیں
۴۷	سلام میں ۸ سنتیں ہیں
۴۹	نماز کے مستحبات

۵۱

مردوں کا طریقہ نماز

۵۲

نماز شروع کرنے سے پہلے

۵۴

نماز شروع کرتے وقت

۵۵

کھڑے ہونے کی حالت میں

۵۷

رکوع میں

۵۸

رکوع سے کھڑنے ہوتے وقت

۵۹

سجدہ میں جاتے وقت

۵۹

سجدہ میں

۶۱

دونوں سجدوں کے درمیان

۶۲

دوسرا سجدہ اور اس سے اٹھنا

۶۳

قعدے میں

۶۴

سلام پھیرتے وقت

۶۴

دعا کا طریقہ

۶۵

دعا کا ثبوت

۷۴

خواتین کے طریقہ نماز کا ثبوت

۸۹

خواتین کا طریقہ نماز

نماز شروع کرنے سے پہلے

نماز شروع کرتے وقت

کھڑے ہونے کی حالت میں

رکوع میں

رکوع سے کھڑے ہوتے وقت

سجدہ میں جاتے وقت

دونوں سجدوں کے درمیان

دوسرا سجدہ اور اس سے اٹھنا

قعدہ میں

سلام پھیرتے وقت

دعا کا طریقہ

ایک مسئلہ

فضیلتِ نماز کی پہلی حدیث

تمت

بسم الله الرحمن الرحيم

تصدیق

حضرت مولانا سبحان محمود صاحب دامت برکاتہم
ناظم دارالعلوم کراچی

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد!
احقر نے عزیز مولوی عبدالرؤف سلمہ کے ترتیب
دیے ہوئے رسالہ "کامل طریقہ نماز" پر سرسری نظر ڈالی،
بمشاء اللہ عزیز موصوف نے اس رسالہ میں نماز کے فرائض و
واجبات اور سنتیں وغیرہ سلیقہ سے جمع کی ہیں اور مردوں اور
عورتوں کی نماز پڑھنے کا مفصل طریقہ بھی الگ الگ تحریر
کر دیا ہے، مردوں کی نماز کا تفصیلی طریقہ تو حاکم طور پر مل جاتا
ہے، لیکن عورتوں کی نماز کا مفصل طریقہ عموماً نہیں ملتا، اس
لحاظ سے یہ رسالہ بہت مفید اور کارآمد ہے، اور مستند و معتبر
ہے، اب خواتین و حضرات کو یہ رسالہ سامنے رکھ کر اپنی اپنی

نماز درست کرنی چاہیے اور یہ رسالہ ہر گھر میں ہونا چاہیے تاکہ
 فریضہ نماز سنت کے مطابق ادا ہو اور بارگاہِ الہی میں باعثِ
 قبول ہو۔

دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عزیز موصوف کی اس محنت
 کو قبول فرمائیں اور تمام مسلمانوں کو اس کے مطابق اپنی نماز
 درست کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

(حضرت مولانا سبحان محمود صاحب دامت برکاتہم)

خادم حدیث و ناظم دارالعلوم کراچی نمبر ۱۳

۱۳۱۲/۱/۲۲

عرض مرتب

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم محمد و
آلہ و اصحابہ اجمعین

نماز بہت اہم عبادت ہے، اس کو سنت کے مطابق
ٹھیک ٹھیک ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم
اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے جس کی وجہ سے اکثر
ہماری نمازیں خلاف سنت ادا ہوتی ہیں اور انوار سنت سے
ظالی رہتی ہیں، پھر عام لوگوں کو خصوصاً خواتین کو سنت کے
مطابق نماز ادا کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں۔ اس لیے بھی
ہماری نمازیں صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتیں اگر ذرا سی توجہ
کر لیں اور توجہ دیکر نماز کا صحیح طریقہ سیکھ لیں اور اس کی عادت
ڈال لیں تو جتنے وقت میں ہم آج نماز پڑھتے ہیں اتنے ہی
وقت میں وہ نماز سنت کے مطابق ادا ہوگی بلکہ اور سہولت
سے ادا ہوگی اور اس کا اجر و ثواب بھی کہیں زیادہ ہوگا، لہذا

محترم جناب مولوی اشتیاق احمد صاحب مدظلہ کی فرمائش پر یہاں نماز کے متعلق چند منتخب حدیثیں، نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات اور خواتین و حضرات کی نماز کا مکمل طریقہ تفصیل سے تحریر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے مفید بنائیں اور اس کے مطابق اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

ناچیز عبد الرؤف سکھروی عفا اللہ عنہ

۱۲۵ / ۱۳۱۳ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اطاعت اور محبت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
 فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝
 (سورۃ الحشر آیت ۷)

ترجمہ

اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تم کو جو کچھ دیدیا
 کریں اسے لے لیا کرو اور جس چیز سے تم کو منع کر دیا کریں،
 اس سے رک جایا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ
 تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ
 يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
 (سورۃ آل عمران آیت ۳۱)

ترجمہ

اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجیے! اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو! اس پر اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمادیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے نہایت مہربان ہیں۔ پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ضروری ہے اور دوسری آیت سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حاصل ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے پر موقوف ہے۔ بس یوں سمجھیں ہماری نجات اور فلاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کر دیا، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول اور کون انکار کریگا؟ ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے (گویا) انکار ہی کیا۔ (بخاری)

ایک جگہ ارشاد ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت

۱۳
 تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس دینی
 کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لیکر آیا ہوں۔ (مشکوٰۃ)
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نماز
 کے بارے میں بہت تاکیدیں حکم دیا ہے۔ اس کا اہتمام
 کرنے والوں کے لیے بڑی بشارتیں دی ہیں اور نہ پڑھنے
 والوں کے لیے ہولناک عذاب اور وبال بیان فرمایا ہے۔ لہذا
 مذکورہ آیات و احادیث کی روشنی میں نماز کے متعلق حضور
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھیے! عمل کیجیے! اور
 فلاح پائیے!

بشارتیں اور خوشخبریاں گناہ معاف ہونا

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر
 شریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔
 آپ ﷺ نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی اُس کے پتے

اور بھی گرنے لگے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اسے ابو ذر! مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ تعالیٰ کیلئے نماز پڑھتا ہے تو اُس سے اُس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا بناؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ پانچ مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو کیا اُس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل فرمادیتے ہیں۔ (مشکوٰۃ)

ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوالاسود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ مسجد میں تشریف فرماتے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر

فرض نماز پڑھے تو حق تعالیٰ جل شانہ، اُس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اُس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اُس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اُس نے آنکھوں سے کیا ہو اور وہ گناہ جو اُس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں سب کو معاف فرمادیتے ہیں۔ تو حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے۔ (الترغیب)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اُس آگ کو جسے تم نے اپنے (گناہوں کی بدولت) اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے، بھاؤ، چنانچہ (دیندار لوگ) اُٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے اُن کے گناہوں کی (صبح سے ظہر تک) مغفرت کر دی جاتی ہے، اسی طرح پھر عصر کے وقت پھر مغرب کے وقت پھر عشاء کے وقت (غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے)۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اندھیرے میں بعض لوگ برائیاں

(زناکاری، بدکاری وغیرہ) کی طرف چل دیتے ہیں اور بعض لوگ بھلائیوں (نماز و طیفہ ذکر وغیرہ) کی طرف چلنے لگتے ہیں۔
(الترغیب)

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان آدمی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، پھر پورے خشوع اور اچھے رکوع و سجود کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو، اور نماز کی یہ برکت اس کو ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔

(مسلم شریف)

فائدہ:

ان احادیث سے واضح ہوا کہ نماز ایسا مبارک عمل ہے جس کے ذریعہ نماز پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور گناہوں کی گندگی دھلتی رہتی ہے، لیکن نماز کی یہ تاثیر اور برکت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ نمازی کبیرہ گناہوں سے آلودہ نہ ہو، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی نجاست اتنی

خلیظ ہوتی ہے کہ اس کا ازالہ صرف توبہ ہی سے ہو سکتا ہے،
ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو یونہی معاف فرمادے۔ بہر حال نماز کا
اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز گناہوں کی معافی کا اہم ذریعہ ہے۔

شہید سے پہلے جنت میں جانا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک
قبیلہ کے دو شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک
صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا ایک سال
بعد انتقال ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا
ایک سال بعد انتقال ہوا تھا ان شہید سے بھی پہلے جنت میں
داخل ہو گئے تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اونچا
ہے وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے۔ میں نے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم سے خود عرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا تو حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد
میں انتقال ہوا ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کہ کتنی زیادہ
ہو گئیں۔ ایک رمضان المبارک کے پورے روزے بھی ان
کے زیادہ ہوئے اور چھ ہزار اور اتنی اتنی رکعتیں نماز کی ایک
سال میں ان کی بڑھ گئیں۔ (الترغیب)

جنت میں داخلہ کی ضمانت

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری اُمت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان پانچ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا اُس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ (الترغیب)

نماز پر جنت کا وعدہ

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اچھی طرح وضو کرے، پھر اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر پوری دلی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھے تو جنت اس کے لیے ضرور واجب ہو جائے گی۔ (مسلم شریف)

فائدہ:

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نماز کی پابندی اور سنت کے مطابق اُس کی ادائیگی نمازی کے لیے جنت میں جانے کا

یقینی ذریعہ ہے، لہذا اس کو ضرور اپنانا چاہیے۔

نماز کی تاکید

گھگڑے گھگڑے ہونے پر بھی نماز نہ چھوڑنا

حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سات نصیحتیں فرمائیں جن میں سے چار یہ ہیں: اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ بناؤ چاہے تمہارے گھگڑے گھگڑے کر دیے جائیں یا تم جلا دیے جاؤ یا سولی چڑھا دیے جاؤ۔ دوسرے یہ کہ جان کر نماز نہ چھوڑو جو جان بوجھ کر نماز چھوڑوے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو کہ اس سے حق تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ شراب نہ پیو کہ وہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔

نماز کی عظیم فضیلت

ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی میں جب خیر

کو فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنے مالِ غنیمت کو نکالا جس میں متفرق سامان تھا اور قیدی تھے اور خرید و فروخت شروع ہو گئی (کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا، دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا) اتنے میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہ مل سکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور! میں سامان خریدتا رہا اور بیٹا رہا۔ جس میں تین سو اوقیہ^(۱) چاندی نفع میں پچی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تمہیں بہترین نفع کی چیز بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا حضور ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دو رکعت نفل۔

(ابوداؤد)

نماز چھوڑنا گھبر لٹنے کے برابر ہے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے

اسکی مقدار اس نانہ کے لٹا سے تقریباً ۳ سو کلو گرام کے برابر ہے۔

گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ (الترغیب)

تین چیزوں میں تاخیر نہ کرنا

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں میں تاخیر نہ کرو ایک نماز جب اُس کا وقت ہو جائے۔ دوسرے جنازہ جب تیار ہو جائے۔ تیسرے بے نکاحی عورت جب اُس کے جوڑ کا خاوند مل جائے۔ (الترغیب)

دس باتوں کی وصیت

حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دس باتوں کی وصیت فرمائی

① یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا گو تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔

② والدین کی نافرمانی نہ کرنا گو وہ تجھے اس کا حکم کریں کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے۔

③ فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا جو شخص فرض نماز جان کر چھوڑتا ہے اللہ کا ذمہ اُس سے بری ہے۔

④ شراب نہ پینا کہ یہ ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے۔

۲۲
۵) اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔

۶) لڑائی میں نہ بھاگنا چاہیے سب ساتھی مر جائیں۔
۷) اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے جیسے طاعون وغیرہ تو وہاں سے نہ بھاگنا۔

۸) اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔
۹) تنبیہ کے واسطے اُن پر سے لکڑی نہ ہٹانا۔
۱۰) اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا۔ (الترغیب)

حضور کی آخری وصیت

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ آخری وقت میں جب زبان مبارک سے پورے لفظ نہیں نکل رہے تھے اُس وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور غلاموں کے حقوق کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت علی سے بھی یہی منقول ہے کہ آخری کلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی تاکید اور غلاموں کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حکم تھا۔ (جامع صغیر)

فائدہ:

ان احادیث سے کس قدر نماز کی تاکید اور اہمیت

معلوم ہو رہی ہے۔ اس لیے نماز کی بیحد فکر کرنی چاہیے اور وقت پر ادا کرنے کا خیال رکھنا چاہیے۔

عتاب اور عذاب

نماز نہ پڑھنا کفر کے برابر ہے

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے ایک جگہ ارشاد ہے کہ بندہ کو اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ (الترغیب)

بے نمازی کا کافروں کے ساتھ حشر

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اُس کیلئے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت جنت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام

نہ کرے اُس کیلئے قیامت کے دن نہ نور ہوگی اور نہ اُس کے پاس کوئی نخت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ، اُس کا حشر فرعون، ہامان اور اُبی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ (الترغیب)

فرض نماز نہ پڑھنے پر سر کچلنا

حضرت سرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ (صبح کی نماز کے بعد) صحابہ سے دریافت فرماتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی دیکھتا تو بیان کر دیتا (اور آپ ﷺ اُس کی تعبیر بیان فرمادیتے) ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبِ معمول دریافت فرمایا۔ اُس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس دو شخص آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اُس کے بعد لمبا خواب ذکر فرمایا جس میں جنت، دوزخ اور اُس میں مختلف قسم کے عذاب لوگوں کو ہوتے ہوئے دیکھے، منجملہ اُن کے ایک شخص کو دیکھا کہ اُس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے اور اس زور سے پتھر مارا جاتا ہے کہ وہ پتھر لڑھکتا ہوا دور جا پڑتا ہے اتنے اُس کو اُٹھایا جاتا ہے وہ سر ویسا ہی ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کو زور

سے مارا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دونوں ساتھیوں سے
 دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس
 شخص نے قرآن شریف پڑھا تھا اور اُس کو چھوڑ دیا تھا اور
 فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا۔ (الترغیب)

دو کروڑ ۸۸ لاکھ سال جہنم میں جلنا

ایک حدیث میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قہنا کر دے گو وہ بعد میں
 پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک
 حقب جہنم میں جلے گا، اور ایک حقب کی مقدار اسی برس ہوتی
 ہے اور ایک برس تین سو ساٹھ دن کا اور قیامت کا ایک دن
 ایک ہزار برس کے برابر ہوگا۔ (اس حساب سے ایک حقب
 کی مقدار دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس ۲۸۸۰۰،۰۰۰ ہوتی۔)
 (مجالس الابرار صفحہ ۳۶۵ مجلس نمبر ۵۱)۔

نمازی پر پانچ انعام

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام
 کرتا ہے حق تعالیٰ شانہ پانچ طرح سے اس کا اکرام و اعزاز

فرماتے ہیں۔

① ایک یہ کہ اُس پر سے رزق کی تنگی ہٹادی جاتی ہے۔

② دوسرے یہ کہ عذاب قبر ہٹادیا جاتا ہے۔

③ تیسرے یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے اس

کے دائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے (جن کا حال سورۃ الحاقہ میں

مفصل مذکور ہے کہ جن لوگوں کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں

دیئے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے

پھریں گے۔

④ چوتھے یہ کہ پُل صراط پر سے بجلی کی طرح گذر جائیں

گے۔

⑤ پانچویں یہ کہ حساب سے محفوظ رہیں گے۔

بے نمازی کو پندرہ قسم کا عذاب

اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اُس کو پندرہ طریقہ

سے عتاب ہوتا ہے۔ پانچ طرح دنیا میں اور تین طرح سے

موت کے وقت اور تین طرح قبر میں اور تین طرح قبر سے

کلنے کے بعد۔

دنیا کے پانچ عذاب

دنیا کے پانچ عذاب تو یہ ہیں۔

① اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی
 ② دوسرے یہ کہ صلحاء کا نور اُس کے چہرے سے
 ہٹا دیا جاتا ہے۔

③ تیسرے یہ کہ اُس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا
 جاتا ہے۔

④ چوتھے اُس کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔
 ⑤ پانچویں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اُس کا
 استحقاق نہیں رہتا۔

موت کے وقت تین عذاب

اور موت کے وقت تین عذاب یہ ہیں۔

اول ذلت سے مرتا ہے۔

دوسرے یہ کہ بھوکا مرتا ہے۔

تیسرے پیاس کی شدت میں موت آتی ہے۔ (اگر

سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔)

قبر کے تین عذاب

قبر کے تین عذاب یہ ہیں۔

① اول قبر اُس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں

② دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔

③ تیسرے قبر میں ایک سانپ اُس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے اتنے لانبے کہ ایک دن پورا چل کر ان کے ختم تک پہنچا جائے۔ اُس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ مجھے صبح کی نماز صائغ کرنے کی وجہ سے آفتاب نکلنے تک مارے جاؤں اور ظہر کی نماز صائغ کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں اور پھر عصر کی نماز صائغ کرنے کی وجہ سے غروب تک اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں جب وہ ایک دفعہ اُس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ ستر ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔

قبر سے نکلنے پر تین عذاب

اور قبر سے نکلنے کے بعد تین عذاب یہ ہیں۔

① ایک حساب سختی سے کیا جائے گا۔

② دوسرے حق تعالیٰ شانہ کا اُس پر غصہ ہوگا۔

③ تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کل میزان

چودہ ہوئیں ممکن ہے پندرہ حوال بھول سے رہ گیا ہو۔

اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اُس کے چہرے پر تین

سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ پہلی سطر! او اللہ کے حق کو صنائع

کرنے والے۔ دوسری سطر! او اللہ کے غصہ کے ساتھ

مخصوص۔ تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو

صنائع کیا آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ (فضائل نماز)

جماعت کی فضیلت و اہمیت

جماعت کی نماز کا ثواب تین کروڑ نمازوں سے زیادہ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کی نماز اکیلے

کی نماز سے ستائیس درجے زیادہ ہوتی ہے۔ (الترغیب)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو اس نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو پچیس درجہ المضاعف ہوتی ہے، اور بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجہ تک پہنچا دیتا ہے، پھر مسجد کی طرف نماز کے ارادہ سے چلتا ہے کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تو جو قدم بھی رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہو جاتی ہے اور پھر جب نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ با وضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کیلئے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ (الترغیب)

فائدہ:

بعض علماء نے ان احادیث کے بارے میں فرمایا ہے کہ پہلے جماعت کی نماز کا ثواب پچیس گنا تھا، بعد میں ستائیس گنا کر دیا گیا اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ حدیث بالا میں المضاعف کا ترجمہ دو چند اور دو گنا کا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جماعت کی نماز کا ثواب پچیس مرتبہ تک دو گنا ہوتا چلا جاتا ہے،

اس صورت میں جماعت کی ایک نماز کا ثواب تین کروڑ پینتیس لاکھ، چون ہزار چار سو پینتیس درجہ ہوا، حق تعالیٰ شانہ کی رحمت سے یہ ثواب کچھ بعید نہیں جیسا کہ ایک نماز چھوڑنے پر دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال تک دوزخ میں جلنے کا ذکر گزر چکا ہے (خلاصہ از فضائل نماز)

مسجد میں اہتمام نماز سنت ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو وہ ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے یعنی مسجد میں، اس لیے کہ حق تعالیٰ شانہ نے تمہارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کیلئے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں، ان ہی میں سے یہ جماعت کی نمازیں بھی ہیں۔ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے چھوڑنے والے ہو گے اور یہ سمجھ لو کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔

اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد مسجد کی طرف جانے تو ہر ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک ایک خطا معاف ہوگی اور ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلم کھلا منافق ہوتا وہ تو جماعت سے رہ جاتا تھا (ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام منافقوں کو بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی) یا کوئی سنت بیسار، ورنہ جو شخص دو آدمیوں کے سہارے سے گھسٹتا ہوا جاسکتا تھا وہ بھی صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ (الترغیب)

دو پروانے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چالیس دن اخلاص کے ساتھ اس طرح نماز باجماعت پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اس کو دو پروانے (پرپے) ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ جماعت کا ثواب مل جانا (الترغیب)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی ہے تو بھی اس کو جماعت کی نماز

کا ثواب ہوگا اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔
(الترغیب)

ترک جماعت کا وبال

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے (وہیں پڑھ لے) تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا کہ مرض ہو یا کوئی خوف ہو۔ (الترغیب)
فائدہ:

مطلب یہ ہے کہ فرض تو ذمہ سے اتر جائے گا لیکن اس نماز پر جو اجر و ثواب منجانب اللہ عطا ہوتا وہ نہ ملے گا جو زبردست مروی اور برسی مروی کی بات ہے۔

ظلم، کفر اور نفاق

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ سراسر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے (اس شخص کا فعل) جو اللہ کے منادی (مؤذن) کی آواز سنے اور نماز کو نہ آئے۔ (الترغیب)

اس حدیث میں جماعت چھوڑنے کو کافروں اور منافقوں کا فعل بتایا ہے جو مسلمان کے لیے سنت تنبیہ اور ڈرنے کی بات ہے۔

گھروں کو جلانا

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ (الترغیب)

جماعت چھوڑنے والا جنسی ہے

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا (اس کے متعلق کیا حکم ہے؟) آپ نے فرمایا یہ شخص جنسی ہے۔ (الترغیب)

فائدہ:

ان احادیث سے جماعت کی اہمیت اور تاکید واضح ہے اس لیے ملازمت، تجارت اور زراعت کی عام مشغولیت میں جماعت چھوڑنا درست نہیں ہے کہ دنیا کی خاطر نماز باجماعت چھوڑنا بڑے خسارے اور وبال کی بات ہے سمجھ لیجیے! قبور و آخرت میں نماز کام آئے گی دنیا والے کام نہیں، آئیں گے ہم دنیا میں اکیلے آئے تھے اور اکیلے ہی جانا ہے غور کر لیجیے!

خشوع و خضوع

نماز میں خشوع و خضوع کی بہت تاکید ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اور خشوع اس کو کہتے ہیں کہ نماز کی نماز کے اندر اپنے اختیار سے دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے یا جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کے الفاظ یا معنی کی طرف توجہ رکھے۔ اپنے اختیار سے ادھر ادھر نہ لے جائے البتہ غیر اختیاری طور پر دھیان بھگنا خشوع کے خلاف نہیں ہے، اور

خضوع اس کو کہتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کے دوران نمازی پر سکون و اطمینان کی کیفیت قائم رہے اور تمام ارکان سکون و وقار سے ادا ہوں، عجلت اور جلد بازی نہ کی جائے۔ لیجئے! اب احادیث طیبہ سے خضوع و خضوع کی اہمیت ملاحظہ کیجئے!

نماز کی دعا اور بددعا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے وضو بھی اچھی طرح کرے، خضوع و خضوع سے بھی پڑھے۔ کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع و سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کرے۔ غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی، اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع و سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔

۳۷
 اُس کے بعد وہ نماز پُرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی
 کے منہ پر ماردی جاتی ہے۔ (الترغیب)

نماز میں سکون

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ حضرت ام
 رومان رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی
 تھی نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
 عنہ نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں (ڈر کی وجہ سے)
 نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز
 کیلئے گھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو سکون سے رکھے، یسود کی طرح
 ہلے نہیں، بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے
 رہنا نماز کے پورا ہونے کا جزو ہے۔ (الجامع الصغیر)

عذاب سے حفاظت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو قیامت کے دن پانیوں
 نمازیں ایسی لے کر حاضر ہو کہ ان کے اوقات کی بھی حفاظت
 کرتا رہا ہو اور وضو کا بھی اہتمام کرتا رہا ہو، اور ان نمازوں کو

خشوع و خضوع سے پڑھتا رہا ہو تو حق تعالیٰ شانہ نے عہد فرمایا ہے کہ اُس کو عذاب نہیں دیا جائے گا اور جو ایسی نمازیں نہ لے کر حاضر ہو اُس کیلئے کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے اپنی رحمت سے معاف فرمادیں چاہے عذاب دیں۔ (الترغیب)

بدترین چور

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز سے بھی چوری کر لے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! نماز میں سے کس طرح چوری کرے گا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے۔ (الترغیب)

خشوع اٹھ جانا

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس اُمت سے نماز کا خشوع اُٹھایا جائے گا، تو دیکھے گا کہ (بہری مسجد میں) ایک شخص بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ہوگا۔
مذکورہ تمام احادیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ نماز

نہایت پابندی سے پڑھنی چاہیے اور کامل طریقہ سے پورے شروع و خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ لیجئے! اب آپ نماز کے فرائض و واجبات پڑھیے اور پھر نماز کا کامل طریقہ پڑھیے اور اپنی نمازیں درست کیجیے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی آنے والے طریقہ کے مطابق اپنی اپنی نماز درست کریں اور اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی نماز بھی صحیح کریں اور کبھی کبھی اپنی نماز اس کے مطابق جانپتے رہا کریں۔

نماز کے فرائض

نماز میں چھ فرض ہیں، انہیں "ارکانِ نماز" بھی کہتے

ہیں۔

- ۱) تکبیرہ تحریمہ کہنا۔
- ۲) قیام کرنا، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔
- ۳) قرأت کرنا، یعنی قرآن کریم کی کوئی سورت یا آیت پڑھنا۔
- ۴) رکوع کرنا۔
- ۵) دونوں سجدے کرنا۔
- ۶) قعدہ اخیرہ کرنا۔ یعنی نماز کے اخیر میں جتنی دیر

التیمات میں لگتی ہے اتنی در بیٹھنا۔

(از اتنا ۶ ہدایہ، در مختار)

فرائض کا حکم

ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی جان کر یا
بھول کر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی بجز جس نماز میں کوئی
فرض ادا ہو گیا ہو اسے نئے سرے سے پڑھنا ضروری
ہے۔ (شامی)

نماز کے واجبات

۱۔ فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں قرات کرنا۔

۲۔ الحمد شریف پڑھنا۔

۳۔ الحمد کے بعد کوئی سورت ملانا۔

۴۔ ترتیب سے نماز پڑھنا۔

۵۔ قوم کرنا یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔

۶۔ جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔

۷۔ سکون و اطمینان سے نماز پڑھنا۔

۸۔ پہلا قعدہ کرنا اگر نماز دو رکعت سے زیادہ ہو۔

۹۔ دونوں قعدہ میں ایک ایک بار التیمات پڑھنا۔

(۱۰) جہری نمازوں جیسے فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور تررمضان میں امام کو بلند آواز سے قرأت کرنا، اور سرتی نمازوں جیسے ظہر اور عصر ان میں آہستہ قرأت کرنا۔

(۱۱) قرأت کی ترتیب میں الحمد شریف سورت سے پہلے پڑھنا۔

(۱۲) حکم ازکم لفظ "السلام" کے ذریعہ نماز ختم کرنا۔ دوسرا سلام بھی واجب ہے۔

(۱۳) وتر میں دعاء قنوت پڑھنا۔

(۱۴) عیدین کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا۔

از ۱ تا ۱۴ در مختار مع رد المحتار

واجبات کا حکم:

ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی یا چند بھول کر چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے اور واجب چھوٹنے سے نماز میں جو کمی ہو گئی تھی اس کی تلافی ہو جاتی ہے، اور اگر جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دے تو پھر سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اس طرح نماز کا کوئی واجب بھول کر چھوٹ جانے اور پھر نماز

۴۲
 کے آخر میں نمازی سجدہ سو کرنا بھی بھول جائے اور سلام
 پھیرنے کے بعد جان کر نماز کے منافی کوئی ایسا کام کرے
 جس کی وجہ سے بناء نہ ہو سکے تو بھی نماز دوبارہ پڑھنا واجب
 ہے۔ (در مختار)

نماز کی سنتیں

نماز میں تقریباً ۵۱، سنتیں ہیں جو "ططاوی علی مرقی
 الخلیح" سے لی گئی ہیں جن میں اکثر سنت مؤکدہ ہیں اور کچھ
 سنت غیر مؤکدہ، جتنے میں آسانی کے لیے انہیں چھ حصوں
 میں تقسیم کیا گیا ہے۔

قیام میں ۱۶ سنتیں ہیں

- ① تکبیر تحریمہ بغیر سر جھکانے سیدھے کھڑے ہو کر رکھنا۔
- ② قیام میں مرد کو دونوں پاؤں کے درمیان چار انگشت
 کا فاصلہ رکھنا۔
- ③ مرد کو تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھ کانوں تک
 اٹھانا، اور عورت کو کندھوں تک اٹھانا۔
- ④ تکبیر تحریمہ میں انگلیاں کشادہ رکھنا اور ہتھیلیوں اور
 انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا۔

⑤ مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر سے اس طرح ملی ہونا کہ امام کے اللہ اکبر کا "بر" مقتدی کے اللہ اکبر کے "بر" سے پہلے ادا ہو جائے یعنی مقتدی کی تکبیر امام کی تکبیر کے بعد ختم ہو، امام کی تکبیر سے پہلے مقتدی کی تکبیر ختم نہ ہو۔

⑥ تکبیر تحریمہ کے بعد مرد کو داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا اس طرح سے کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر ہو اور انگوٹھا اور چھتکی کا حلقہ بنا لیا جائے اور درمیان کی تین انگلیاں ملا کر کلانی کی سیدھ میں بچھالی جائیں۔

⑦ عورت کو دونوں ہاتھ سینہ پر بائیں حلقہ بنائے اس طرح رکھنا کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو۔

⑧ پہلی رکعت میں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِهَا۔

⑨ پہلی رکعت میں اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِهَا۔

⑩ ہر رکعت کے شروع میں بِسْمِ اللّٰهِ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِهَا۔

⑪ امام، مقتدی اور منفرد تینوں کو الحمد شریف کے ختم پر آمین کہنا۔

⑫ شام، لغو، تسمیہ اور آمین کو آہستہ کہنا۔

⑬ مقیم کو فجر اور ظہر میں طوال مفصل (از سورہ جبرائیل تا بروج) میں سے کوئی سورت پڑھنا اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل (از سورہ بروج تا یسین) میں سے کوئی سورت پڑھنا اور مغرب میں قصار مفصل (از سورہ یسین تا سورہ ناس) میں سے کوئی سورت پڑھنا۔ مسافر کو اختیار ہے جو کسی سورہ پڑھے۔

⑭ فجر کی نماز میں پہلی رکعت کو دوسری رکعت کے مقابلہ میں طویل کرنا۔

⑮ امام کو تکبیر تحریمہ، دوسری تکبیریں اور سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ بلند آواز سے کہنا۔

⑯ فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں کے بعد والی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا اگر نماز دور رکعت سے زیادہ ہو۔

رکوع میں سے سنتیں ہیں

① رکوع کے لیے تکبیر کہنا۔

② دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔

③ گھٹنے پکڑتے وقت مرد کو ہاتھ کی انگلیاں کشادہ

رکھنا۔ عورتیں انگلیاں ملا کر رکھیں گی۔

پنڈلیوں کو سیدھا کھڑا رکھنا۔

(۳)

پیشہ کو پھیلانا۔

(۵)

سر اور سرین برابر رکھنا۔

(۶)

کم از کم تین بار رکوع کی تسبیح سبحان ربی

(۷)

العظیم کہنا۔

قوسہ میں ۵ سنتیں ہیں

رکوع سے اُٹھنا۔

(۱)

رکوع سے اُٹھتے وقت سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہنا۔

(۲)

رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑا ہونا۔

(۳)

مقتدی اور اکیلے نماز پڑھنے والے کو رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

(۴)

کہنا۔

امام کو سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ بلند آواز سے

(۵)

کہنا اور مقتدی اور منفرد کو رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ آہستہ آواز

سے کہنا۔

سجدہ میں ۱۰ سنتیں ہیں

سجدہ میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا۔

(۱)

پہلے دونوں گھٹنے پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پھر

(۲)

پیشانی زمین پر رکھنا۔

۳) سجدہ کا دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہونا، اس

طریقہ سے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں۔

(علم الفقہ صفحہ ۶۸)

۴) مرد کا اپنے پیٹ کو رانوں سے، کہنیوں کو پہلو سے

اور کلائیوں کو زمین سے جدا رکھنا۔

۵) عورتوں کا اپنے پیٹ کو رانوں سے، کہنیوں کو

پہلو سے ملا کر رکھنا اور بانہوں کو زمین پر بچھا ہوا رکھنا۔

۶) سجدہ کی حالت میں دونوں پیروں کی انگلیوں کا رخ

قبلہ کی طرف رکھنا۔ (علم الفقہ صفحہ ۲۸)

۷) تین مرتبہ سجدہ کی تسبیح پڑھنا۔

۸) سجدہ سے اٹھنے کے لیے تکبیر رکھنا۔

۹) سجدہ سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ

اور پھر گھٹنوں کو اٹھانا۔

۱۰) دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا، اس طریقہ

سے کہ دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر ہوں جس طرح التعمیات میں

رکھتے ہیں۔

قعدہ میں ۵ سنتیں ہیں

- ① مرد کا دائیں پیر کو کھڑا کرنا اور انگلیوں کو حتی الامکان قبلہ رخ رکھنا اور بائیں پیر کو پھالینا۔
- ② اور عورتوں کو "تورک" کرنا یعنی اپنے بائیں سر میں پر پٹھنا۔ اور دائیں ران کو بائیں پر رکھنا اور بائیں پیر داہنی طرف نکال دینا اور دونوں ہاتھ بدستور رانوں پر رکھنا۔
- ③ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا اس طریقہ سے کہ لا الہ کچھتے وقت انگلی اٹھانا اور الا اللہ کہتے وقت گرا دینا۔
- ④ قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا۔
- ⑤ قعدہ اخیرہ میں درود شریف کے بعد کوئی ماثورہ دعا کرنا۔

سلام میں ۸ سنتیں ہیں

- ① سلام پھیرتے وقت دائیں اور بائیں طرف منہ پھیرنا اور منہ پھیرتے وقت پہلے دائیں طرف منہ پھیرنا پھر بائیں طرف۔
- ② دوسرا سلام پہلے سلام کے مقابلہ میں کچھ ہلکی آواز سے پھیرنا۔

- (۳) مقتدی کا سلام امام کے سلام کے ساتھ پڑھنا۔
- (۴) امام کا دونوں سلاسون میں نمازیوں، فرشتوں اور نیک جنات کی نیت کرنا۔
- (۵) مقتدی کا نمازیوں، فرشتوں اور نیک جنات کے ساتھ جس طرف امام ہو اس طرف امام کی نیت بھی کرنا اور اگر بالکل سامنے ہو تو دونوں سلاسون میں امام کی نیت کرنا۔
- (۶) منفرد کو دونوں سلاسون میں صرف فرشتوں کی نیت کرنا۔
- (۷) ہر عمل دائیں طرف سے شروع کرنا۔
- (۸) مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا۔
- سنتوں کا حکم:
- ان کا حکم یہ ہے کہ اگر نمازی ان میں سے کسی سنت کو جان کر چھوڑ دے تو نماز فاسد نہیں ہوتی، اور سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوتا لیکن نماز مکروہ ہو جاتی ہے اور اگر بھول کر کوئی سنت چھوٹ جائے تو نماز مکروہ نہیں ہوتی۔ (در مختار)

نماز کے مستحبات

نماز میں سے مستحب ہیں

- ① اگر کوئی عذر نہ ہو تو تکبیر تحریمہ کہتے وقت مردوں کو اپنے دونوں ہاتھ آستین یا چادر وغیرہ سے نکالنا، اور عورتوں کو ہاتھ باہر نہ نکالنا بلکہ چادر یا دوپٹہ وغیرہ میں چھپائے رکھنا۔
(طحاوی علی مرقی الخلاج)
- ② نمازی کو بحالت نماز کھڑے ہونے کی حالت میں اپنی نگاہ سجدے کی جگہ جمائے رکھنا اور رکوع میں قدموں پر، سجدے میں ناک پر، بیٹھنے کی حالت میں اپنی گود میں اور سلام پھیرتے وقت اپنے کندھوں پر رکھنا۔ (در مختار)
- ③ کھانسی اور جمائی کو حتی الامکان روکنا۔
جمائی روکنے میں دانتوں سے نچلے ہونٹ کو دہانے پر بھی نہ رُکے تو قیام کی حالت میں دہنا ہاتھ رکھ کر روکیں اور قیام کے علاوہ نماز کی باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ کے ذریعے روکنے کی کوشش کریں نیز جمائی روکنے کا ایک عمدہ اور مجرب طریقہ یہ ہے کہ جب جمائی کی ابتدا ہو تو فوراً اپنے دل میں یہ خیال کریں کہ انبیاء علیہم السلام کو کبھی جمائی نہیں آئی۔

صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا اور ٹھیک پایا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے بھی اس نسخہ کو آزمایا اور صبح پایا آپ بھی تجربہ کر لیجیے۔

⑤ جب جماعت کے لیے اقامت کھی جائے تو نمازی کس وقت کھڑے ہوں۔ اس میں تین آداب ہیں۔

① اگر پہلے سے امام محراب کے قریب موجود ہو تو وحی علی الفلاح تک نمازی بیٹھے رہ سکتے ہیں، حضرت امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وحی علی الصلوٰۃ پر کھڑے ہو جائیں۔

② اگر امام محراب کے قریب پہلے سے موجود نہ ہو بلکہ نمازیوں کے پیچھے سے آ رہا ہو تو جس صف میں امام پہنچے وہ صف کھڑی ہوتی جائے۔

③ اگر امام مسجد کے سامنے سے آ رہا ہو تو جو نبی اس پر نظر پڑے تو سارے نمازی کھڑے ہو جائیں۔

(در مختار و طحاوی علی مرقی الفلاح)

⑤ امام کو قدامت الصلوٰۃ کے فوراً بعد تکبیر تحریر

کھنا۔ لیکن زیادہ صبح یہ ہے کہ اقامت ختم ہونے کے بعد تکبیر تحریر کئے۔ (در مختار و طحاوی علی مرقی الفلاح)

۶) پہلے اور آخری قدمہ میں وہی خاص التسمیات پڑھنا جو عموماً پڑھی جاتی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔
(علم الفقہ)

۷) وتر میں دعاء قنوت کی وہی خاص دعا پڑھنا جو عام

طور پر معمول ہے۔ یعنی
اللَّهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِينُكَ الْخِ اور اس کے ساتھ اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ
پڑھنا بھی اولیٰ ہے۔
(علم الفقہ)

مستحبات کا حکم:
ان کا حکم یہ ہے کہ انہیں اختیار کرنا افضل ہے اور
چھوڑ دینے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا اور نہ نماز میں کوئی کراہت
آتی ہے۔
(در مختار)

مردوں کا طریقہ نماز

نماز دین کا ستون ہے۔ اس کو ٹھیک ٹھیک سنت
کے مطابق ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہم لوگ بے

کلمی کے ساتھ نماز کے ارکان جس طرح سمجھ میں آتا ہے، ادا کرتے رہتے ہیں اور اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ وہ ارکان مسنون طریقے سے ادا ہوں، اس کی وجہ سے ہماری نمازیں سنت کے انوار و برکات سے محروم رہتی ہیں، حالانکہ ان ارکان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے سے نہ وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے، نہ منت زیادہ ہوتی ہے، بس ذرا سی توجہ کی بات ہے، لہذا ذیل میں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا نہایت آسان طریقہ تحریر کیا جاتا ہے، ذرا سی توجہ اور عادت ڈالنے سے ہماری نماز سنت کے مطابق ہو سکتی ہے۔

نماز شروع کرنے سے پہلے

یہ باتیں یاد رکھیے اور ان پر عمل کا اطمینان کر لیجیے!

- ① آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔
- ② آپ کو سیدھا کھڑے ہونا چاہیئے اور آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیئے۔ گردن کو جھکا کر ٹھوڑی سینے سے ٹکا لینا بھی مکروہ ہے۔ اور بلاوجہ سینے کو جھکا کر کھڑا ہونا بھی درست نہیں۔ اس طرح سیدھے کھڑے ہوں کہ نظر سجدے کی جگہ پر رہے۔

(۳) آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی جانب رہے، اور دونوں پاؤں سیدھے قبلہ رخ ہیں (پاؤں کو دائیں بائیں ترجیحاً رکھنا خلاف سنت ہے) دونوں پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہئیں۔

صمیم طریقہ

حافظ طریقہ



(۴) دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم چار انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔

(۵) جماعت کی صورت میں اس بات کا بھی اطمینان کر لیں کہ دائیں بائیں کھڑے ہونے والوں کے بازوؤں کے ساتھ آپ کے بازو ملے ہوئے ہیں اور بیچ میں کوئی خلا نہیں ہے۔

(۶) پاچامے کو ٹھننے سے نیچے لٹکانا ہر حالت میں ناجائز ہے، ظاہر ہے کہ نماز میں اس کی شناخت اور بڑھ جاتی ہے، لہذا اس کا اطمینان کر لیں کہ پاچامہ ٹھننے سے اونچا ہے۔

(۷) ہاتھ کی آستینیں پوری طرح دھکی ہوئی ہونی

چاہئیں، صرف ہاتھ کھلے رہیں بعض لوگ آستینیں چڑھا کر نماز پڑھتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔

۵۲
۸ ایسے کپڑے پہن کر نماز میں گھڑے ہونا مکروہ ہے جنہیں پہن کر انسان لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو۔

نماز شروع کرتے وقت

۱ دل میں نیت کر لیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں۔

۲ ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ، ہتھیلیوں کا رخ قبیلے کی طرف ہو، اور انگوٹھوں کے سرے کان کی کو سے یا تو بالکل مل جائیں، یا اُس کے برابر آجائیں اور باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں، بعض لوگ، ہتھیلیوں کا رخ قبیلے کی طرف کرنے کے بجائے کانوں کی طرف کر لیتے ہیں۔

بعض لوگ کانوں کو ہاتھوں سے ڈھک لیتے ہیں۔
بعض لوگ ہاتھ پوری طرح کانوں تک اٹھانے بغیر ہلکا اشارہ سا کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ کان کی کو کو ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں۔

یہ سب طریقے غلط اور خلاف سنت ہیں۔ ان کو چھوڑنا

چاہئے۔

۳) مذکورہ بالا طریقے پر ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہیں، پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہتھکڑے (گٹے) کے گرد حلقہ بنا کر اُسے پکڑ لیں اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح پھیلا دیں کہ تینوں انگلیوں کا رُخ کسی کی طرف رہے۔

۴) دونوں ہاتھوں کو ناف سے ذرا نیچے رکھ کر مذکورہ بالا طریقے سے باندھ لیں۔

کھڑے ہونے کی حالت میں

۱) اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، یا امامت کر رہے ہوں تو پہلے سبحانک اللہم لیل، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی اور سورت پڑھیں، اور اگر کسی امام کے پیچھے ہوں تو صرف سبحانک اللہم پڑھ کر خاموش ہو جائیں، اور امام کی قراءت کو دھیان لگا کر سنیں۔ اگر امام زور سے نہ پڑھ رہا ہو تو زبان بلائے بغیر دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کا دھیان کیے رکھیں۔

۲) جب خود قراءت کر رہے ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بہتر یہ ہے کہ ہر آیت پر رک کر سانس توڑ دیں، پھر

دوسری آیت پڑھیں، کئی کئی آیتیں ایک سانس میں نہ پڑھیں۔ مثلاً الحمد للہ رب العالمین پر سانس توڑ دیں، پھر رب العالمین پر، پھر مالک یوم الدین پر۔ اس طرح پوری سورہ فاتحہ پڑھیں، لیکن اس کے بعد کی قراءت میں ایک اگر سانس میں ایک سے زیادہ آیتیں بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔

(۳) بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ دیں، جتنے سکون کے ساتھ کھڑے ہوں، اتنا ہی بہتر ہے۔ اگر کھجلی وغیرہ کی ضرورت ہو تو صرف ایک ہاتھ استعمال کریں، اور وہ بھی صرف سخت ضرورت کے وقت اور کم سے کم۔

(۴) جسم کا سارا زور ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو اس طرح ڈھیلا چھوڑ دینا کہ اس میں خم آجائے نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ اس سے پرہیز کریں۔ یا تو دونوں پاؤں پر برابر زور دیں، یا ایک پاؤں پر زور دیں تو اس طرح کہ دوسرے پاؤں میں خم پیدا نہ ہو۔

(۵) جمانی آنے لگے تو اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں۔

(۶) کھڑے ہونے کی حالت میں نظریں سجدے کی جگہ پر رکھیں، ادھر ادھر یا سامنے دیکھنے سے پرہیز کریں۔

رکوع میں

رکوع میں جاتے وقت ان باتوں کا خاص خیال رکھیں:

① اپنے اوپر کے دھڑ کو اس حد تک جھکانیں کہ گردن اور پشت تقریباً ایک سطح پر آجائے نہ اس سے زیادہ جھکیں، نہ اس سے کم۔

② رکوع کی حالت میں گردن کو اتنا نہ جھکانیں کہ ٹھورٹی سینے سے ملنے لگے۔ اور نہ اتنا اوپر رکھیں کہ گردن کمر سے بلند ہو جائے، بلکہ گردن اور کمر ایک سطح پر ہو جانی چاہئیں۔

③ رکوع میں پاؤں سیدھے رکھیں، ان میں خم نہ ہونا چاہیے۔

④ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، یعنی ہر دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہو، اور اس طرح دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑ لیں۔

⑤ رکوع کی حالت میں کلاسیاں اور بازو سیدھے تھے ہوتے رہنے چاہئیں ان میں خم نہیں آنا چاہیے۔

۶) کم از کم اتسی دیر رکوع میں رکیں کہ اطمینان سے تین مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہا جا سکے۔
 ۷) رکوع کی حالت میں نظریں پاؤں کی طرف ہوتی چاہئیں۔

۸) دونوں پاؤں پر زور برابر رہنا چاہیے، اور دونوں پاؤں کے نچلے ایک دوسرے کے بالمقابل رہنے چاہئیں۔
 رکوع سے کھڑے ہوتے وقت

۱) رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اتنے سیدھے ہو جائیں کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے۔
 ۲) اس حالت میں بھی نظر سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے۔

۳) بعض لوگ کھڑے ہوتے وقت کھڑے ہونے کے بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کرتے ہیں اور جسم کے جھکاؤ کی حالت ہی میں سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کے ذمے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے، سجدے میں نہ جائیں۔

سجدے میں جاتے وقت

سجدے میں جاتے وقت اس طریقے کا خیال رکھیں

کہ:-

① سب سے پہلے گھٹنوں کو خم دے کر انہیں زمین کی

طرف اس طرح لے جائیں کہ سینہ آگے کو نہ جھکے۔ جب گھٹنے

زمین پر ٹک جائیں، اُس کے بعد سینے کو جھکانیں۔

② جب تک گھٹنے زمین پر نہ گلیں، اس وقت تک اوپر

کے دھڑ کو جھکانے سے حتی الامکان پرہیز کریں۔

آج کل سجدے میں جانے کے اس مخصوص ادب سے

بے پروائی بہت عام ہو گئی ہے، اکثر لوگ شروع ہی سے سینہ

آگے کو جھکا کر سجدے میں جاتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ وہی

ہے جو نمبر ۱ اور نمبر ۲ میں بیان کیا گیا، بغیر کسی عذر کے اس

کو نہ چھوڑنا چاہیے۔

③ گھٹنوں کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک،

پھر پیشانی۔

سجدے میں

① سجدے میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس

طرح رکھیں کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے کانوں کی کو کے
سامنے ہو جائیں۔

④ سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند ہونی
چاہئیں، یعنی انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہوں، اور ان کے درمیان
فاصلہ نہ ہو۔

③ انگوٹیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔

④ کہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی چاہئیں، کہنیوں کو
زمین پر ٹیکنا درست نہیں۔

⑤ دونوں بازو پہلوؤں سے الگ ہٹے ہوئے ہونے
چاہئیں، انہیں پہلوؤں سے بالکل ملا کر نہ رکھیں۔

⑥ کہنیوں کو دائیں بائیں اتنی دور تک بھی نہ پھیلائیں
جس سے برابر کے نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو۔

⑦ رائیں پیٹ سے ملی ہوئی نہیں ہونی چاہئیں، پیٹ
اور رائیں الگ الگ رکھی جائیں۔

⑧ پورے سجدے کے دوران ناک زمین پر ٹکی رہے،
زمین سے نہ اٹھے۔

⑨ دونوں پاؤں اس طرح کھڑے رکھے جائیں کہ
اڑھیاں اوپر ہوں، اور تمام انگلیاں اچھی طرح مڑ کر قبلہ رخ

ہو گئی ہوں۔ جو لوگ اپنے پاؤں کی بناوٹ کی وجہ سے تمام انگلیاں موڑنے پر قادر نہ ہوں، وہ جتنی موڑ سکیں، اتنی موڑنے کا اہتمام کریں، بلاوجہ انگلیوں کو سیدھا زمین پر ٹیکنا درست نہیں۔

⑩ اس بات کا خیال رکھیں کہ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے اٹھنے نہ پائیں، بعض لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی کوئی انگلی ایک لمبے کے لیے بھی زمین پر نہیں گھسے، اس طرح سجدہ اولاً نہیں ہوتا، اور نتیجتاً نماز بھی نہیں ہوتی۔ اس سے اہتمام کے ساتھ پرہیز کریں۔

⑪ سجدے کی حالت میں ہم از کم اتنی دیر گزاریں کہ تین مرتبہ **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں۔ پیشانی ٹیکتے ہی فوراً اٹھ لینا منع ہے۔

دونوں سجدوں کے درمیان

① ایک سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے دوزانو سیدھے بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ ذرا سا سر اٹھا کر سیدھے ہونے بغیر دوسرا سجدہ کر لینا گناہ ہے۔ اور اس طرح کرنے سے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔

② بایاں پاؤں بچھا کر اُس پر بیٹھیں، اور دایاں پاؤں

اس طرح کھڑا کر لیں کہ اس کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہو جائیں۔
بعض لوگ دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کی ایرٹھیوں پر بیٹھ
جاتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں۔

(۳) بیٹھنے کے وقت دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے ہونے
چاہئیں، مگر انگلیاں گھٹنوں کی طرف لٹکی ہوئی نہ ہوں، بلکہ
انگلیوں کے آخری سرے گھٹنے کے ابتدائی کنارے تک پہنچ
جائیں۔

(۴) بیٹھنے کے وقت نظریں اپنی گود کی طرف ہونی
چاہئیں۔

(۵) اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں کم از کم ایک مرتبہ
سبحان اللہ کہا جاسکے، اور اگر اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاسْتُرْنِيْ وَاجْعَلْنِيْ وَارْزُقْنِيْ
پڑھا جاسکے تو بہتر ہے لیکن فرض نمازوں میں یہ پڑھنے کی
ضرورت نہیں، نفلوں میں پڑھ لینا بہتر ہے۔

دوسرا سجدہ اور اس سے اٹھنا

(۱) دوسرے سجدے میں بھی اس طرح جائیں کہ پہلے
دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی۔

② سجدے کی ہیئت وہی ہونی چاہیے جو پہلے سجدے میں بیان کی گئی۔

③ سجدے سے اٹھتے وقت پیشانی زمین سے اٹھائیں، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔

④ اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہ لینا بہتر ہے، لیکن اگر جسم بجاری ہو یا بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے مشکل ہو تو سہارا لینا بھی جائز ہے۔

⑤ اٹھنے کے بعد ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھیں۔
قعدے میں

① قعدے میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہوگا جو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کا ذکر کیا گیا۔

② التسمیات پڑھتے وقت جب "اشھد ان لا" پر پہنچیں تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کریں، اور "الا اللہ" پر گرادیں۔

③ اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنائیں، چھٹکی اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کر لیں، اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائیں کہ انگلی قبیلے کی

طرف جھکی ہوئی ہو۔ بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہ اٹھانی
چاہیے۔

③ "اللہ" کہتے وقت شہادت کی اُٹھلی تو نیچے کر لیں،
لیکن باقی اُٹھلیوں کی جو ہیئت اشارے کے وقت بنائی تھی،
اس کو آخر تک برقرار رکھیں۔

سلام پھیرتے وقت

① دونوں طرف سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا
موڑیں کہ پیچھے بیٹھے آدمی کو آپ کے رخسار نظر آجائیں۔

② سلام پھیرتے وقت نظریں کندھے کی طرف ہونی
چاہئیں۔

③ جب دائیں طرف گردن پھیر کر "السلام علیکم و
رحمة اللہ" کہیں تو یہ نیت کریں کہ دائیں طرف جو انسان اور
فرشتے ہیں، ان کو سلام کر رہے ہیں، اور بائیں طرف سلام
پھیرتے وقت بائیں طرف موجود انسانوں اور فرشتوں کو سلام
کرنے کی نیت کریں۔

دعا کا طریقہ

① دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اتنے اٹھائے جائیں

کہ وہ سینے کے سامنے آجائیں، دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ ہو، نہ ہاتھوں کو بالکل ملائیں، اور نہ دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ رکھیں۔

(۲) دعا کرتے وقت ہاتھوں کے اندرونی حصے کو پھرے کے سامنے رکھیں۔

(ماخوذ: از اول تا آخر نمازیں سنت کے مطابق ادا کیجیے)

فرض نمازوں کے بعد کی دعا کا ثبوت

فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ تردد ہوتا ہے کہ اس دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ بعد کے لوگوں کی ایجاد ہے اس لیے قابل ترک ہے، حالانکہ یہ بات نہیں، فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے ثابت ہے، چند احادیث ملاحظہ ہوں۔

حدیث: عن ابی امامہؓ قال قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع؟ قال جوف اللیل الاخرو دبر الصلوات المكتوبات لهذا حدیث حسن۔
(رواہ الترمذی ص ۲۰۹، ج ۱)

ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے (کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے) عرض کیا گیا یا رسول اللہ! کس وقت کی دعا زیادہ قبول ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ارات کے آخری حصہ کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا (زیادہ مقبول ہے)۔

(ف) اس حدیث سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوئی کہ فرض نماز کے بعد قبولیت دعا کا بہت ہی خاص وقت ہے اس وقت دعا مانگی جائیے، اس وقت میں دعا کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔

حدیث: عن المغيرة بن شعبة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من الصلوة وسلم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد وهو على كل شئ قدير۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفذ ذا الجد منك الجد و لفظ البخارى فى كتاب الاعتصام انه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الكلمات دبر كل صلوة و لفظ البخارى فى كتاب الصلوة فى دبر كل صلوة

مکتوبہ (رواہ البخاری ص ۹۲۷ ج-۲ و مسلم ص ۲۱۸ ج-۱ و ابو داؤد و النسائی)
ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے اور سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ
لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطٰى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا
الْجَنَّةِ مِنْكَ الْجَدُّ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو اکیلا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں اسی کیلئے ملک ہے اور اسی کیلئے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اسے اللہ جو کچھ آپ عطا فرمائیں اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو آپ روکیں اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی مالدار کو تیرے عذاب سے مالداری نہیں بچا سکتی۔

بخاری کی کتاب الاعتصام میں اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ہر نماز کے بعد کہتے تھے اور بخاری کی کتاب الصلوٰۃ میں یہ روایت ان لفظوں

سے ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ الفاظ کہتے تھے۔
 (ف) اس حدیث سے ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگنا
 ثابت ہوتا ہے خواہ اس کے بعد سنتیں ہوں یا نہ ہوں۔ اسی
 طرح لفظ "اذا سلم" سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سنتوں سے
 پہلے یہ دعا ہوتی تھی اور حمد و ثنا اور ذکر افضل ترین دعا ہے۔
 سنی کی تعریف اس سے مانگنا ہی ہوتا ہے۔

اور حضرت امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اور علامہ
 ہمشی نے مجمع الزوائد (۱۶۹/۱۰) میں اور علامہ سیوطی نے اپنا
 رسالہ فض الوعاء فی احادیث رفع الیدین فی الدعاء میں (صفحہ
 ۸۶) پر حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درج
 ذیل روایت ذکر فرمائی ہے:

۴۲۔ عن محمد بن یحییٰ الاسلمی قال:
 رأیت عبداللہ بن الزبیر ورائی رجلاً رافعاً یدیه،
 یدعو قبل ان یفرغ من صلاته، فلما فرغ منها
 قال:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم
 یکن یرفع یدیه حتی یفرغ من صلاته، رجلاً
 ثقات۔

قال الحیثمی فی مجمع الزوائد (۱۲۹/۱۰) رواه الطبرانی، و ترجمہ۔ فقالہ محمد بن ابی یحییٰ الاسلمی عن عبد اللہ بن الزبیر، ورجاله ثقات (فض الوعاص۔ ۸۶)

ترجمہ: حضرت محمد بن یحییٰ اسلمی فرماتے ہیں میں نے حضرت عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھائے دعا کہہا ہے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نماز سے فارغ نہ ہوتے تھے اس وقت تک (دعا کے لیے) ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے (لہذا تم بھی ایسا ہی کیا کرو)

(ف) اس حدیث کے تمام راوی ثقہ اور معتبر ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث سے فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا میں ہاتھ اٹھانا واضح طور پر ثابت ہے۔ نیز مطلق دعا میں ہاتھ اٹھانا صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے جس میں فرائض کے بعد کی دعا بھی شامل ہے، اس لیے فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بلاشبہ درست ہے۔

ان احادیث طیبہ اور دیگر احادیث صحیحہ کی بناء پر فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنے کا جو طریقہ رائج ہے، یہ درست ہے، اس کو بدعت کہنا صحیح نہیں، محققین علماء اور فقہاء دارالعلوم دیوبند کی یہی تحقیق ہے، اسی پر ان کا عمل ہے، اس موضوع پر ان حضرات کے مدلل فتاویٰ اور تحقیقی رسائل موجود ہیں مثلاً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ "استحباب الدعوات عقبیہ الصلوٰۃ" ہے اور ایک رسالہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کا النفاہس المرغوبہ فی حکم الدعاء بعد المكتوبہ" ہے۔ جس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر علماء کرام کی تصدیقات ہیں اور اس رسالہ کا ایک ضمیمہ ہے جس میں ایک سو سے زیادہ بڑے بڑے علماء کرام رحمہم اللہ کے تحقیقی فتاویٰ درج ہیں۔ ان تمام اکابر فقہاء کرام نے احادیث طیبہ اور چاروں اماموں کی معتبر کتابوں کے حوالوں سے فرائض کے بعد کی جانے والی دعا کو نہ صرف جائز بلکہ سنت مستحبہ قرار دیا ہے۔ اور ان اکابر نے ان رسائل میں ایسی واضح واضح احادیث طیبہ جمع فرمائی ہیں جن سے امام، مقتدی اور منفرد

سب کے واسطے فرض نماز کے بعد دُعا کا سنت ہونا ثابت ہوتا ہے اس لیے سب کو دُعا کرنی چاہیئے اور جب فرائض کے بعد امام اور مقتدی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے دُعا کریں گے تو ضمناً خود بخود اجتماع ہو جائے گا، لیکن یہ اجتماع ایک ضمنی چیز ہے اور جائز ہے۔ اس کے لیے لگ سے صریح اور مستقل ثبوت کا طالب ہونا اور ثبوت نہ ملنے پر اس کو بدعت قرار دینا درست نہیں بلکہ مخدوم محمد ہاشم رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرائض کے بعد ہونے والی اجتماعی دُعا کے بارے میں ایک رسالہ عربی زبان میں تحریر کیا ہے جس کا نام

"التحفة المرغوبة فی افضلیة الدعاء بعد المكتوبة"

ہے اس میں مخدوم صاحب نے اس اجتماعی دُعا کے بدعت قرار دینے والوں کو بھی مفصل جواب دیا ہے۔ چنانچہ ان کے جواب کا اردو میں خلاصہ یہ ہے کہ

"فرائض کے بعد اجتماعی دُعا کے تمام اجزاء یعنی 'نفس دُعا، اور دونوں ہاتھ اٹھانا، آمین کہنا اور ختم دُعا پر دونوں ہاتھ چہرہ پر پھیرنا، سب احادیث طیبہ سے ثابت ہے، لہذا اس کے مجموعہ کو بدعت کہنا درست نہیں ہے۔"

البتہ یہ دُعا آہستہ اور چپکے چپکے مانگنا افضل ہے کیونکہ

قرآن و سنت میں اس کی زیادہ تر غیب دی گئی ہے، اور اگر کبھی کبھی امام بلند آواز سے دُعا کرے اور مقتدی اس پر آمین کہیں تو تعلیماً یہ بھی جائز ہے، لیکن واضح رہے کہ **فرائض** کے بعد کی مذکورہ دُعا کا درجہ تفصیل بالا کی روشنی میں بہت سے بہت سنت مستحبہ ہے، لہذا اس دُعا کو اس کے اسی درجہ میں رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔

بعض لوگ اس دُعا کو فرض و واجب کی طرح ضروری سمجھتے ہیں اور اسی درجہ میں اس پر عمل کرتے ہیں سو یہ واجب ترک ہے، اسی طرح بعض لوگ اس کا التزام کرتے ہیں کہ امام اور مقتدی سب مل کر ہی دُعا کریں، ابتداء بھی ساتھ ہو اور انتہا بھی ساتھ ہو جیسا کہ بعض مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ امام دُعا کے شروع میں مؤذن زور سے الحمد للہ رب العالمین پڑھتا ہے اور جب امام دُعا ختم کرتا ہے تو برحمتک یا الرحم الرحمین، پکار کر کہتا ہے۔ اس کو ترک کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس التزام کا نتیجہ یہ ہے کہ مقتدی امام کی دُعا کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کوئی مقتدی امام کی دُعا سے پہلے اپنی دُعا نہیں کر سکتا، ورنہ لوگ اس پر

ظہن کرتے ہیں اور اس کے اس عمل کو معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ اس دُعا میں اجتماعِ اصل مقصود نہیں بلکہ وہ ایک ضمنی چیز ہے، لہذا تابع کو اصل دُعا کے درجہ سے آگے بڑھانا بھی درست نہیں، جتنی دیر چاہے امام دُعا کرے اور جتنی دیر چاہے مقتدی دُعا مانگے، دونوں ایک دوسرے کے تابع نہیں ہیں، مقتدی کو اختیار ہے کہ اپنی مختصر دُعا مانگ کر چلا جائے اور چاہے امام کے ساتھ دُعا ختم کرے، اور چاہے امام کی دُعا سے زیادہ دیر تک دُعا کرتا رہے، ہر طرح جائز ہے اور ہر طرح فرائض کے بعد کی یہ سنت مستحبہ ادا ہو جاتی ہے اور جو لوگ فرض نماز کے بعد بالکل دُعا نہیں کرتے بلکہ دُعا کرنے کو بدعت سمجھتے ہیں ان کا ایسا سمجھنا حد سے تجاوز ہے اور احادیثِ طیبہ کے اور سنت کے خلاف ہے۔



خواتین کے طریقہ نماز کا ثبوت

مردوں کے مسنون طریقہ نماز کے بعد خواتین کا طریقہ نماز آگے آرہا ہے اس سے پہلے ایک سوال اور تفصیلی جواب لکھا جاتا ہے جس میں خواتین کے طریقہ نماز کا مردوں کے طریقہ نماز سے جدا ہونا احادیث طیبہ اور آثار صحابہ سے ثابت ہے، اور یہ اس بناء پر لکھا جا رہا ہے کہ اکثر غیر مقلد مسلمانوں کو خصوصاً خواتین کو یہ تاثر دیتے رہتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کے نماز ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ چنانچہ ان کی غیر مقلد عورتیں مردوں کی طرح نمازیں ادا کرتی ہیں اور یہ محض ناواقفیت پر مبنی ہے لہذا اس تفصیلی وضاحت کے بعد غیر مقلد عورتوں کو ان احادیث و آثار کی پیروی کرنی چاہیے اور حق کو قبول کرنا چاہیے، اور حنفی مذہب رکھنے والی خواتین کو پورا اطمینان رکھنا چاہیے کہ ان کا طریقہ بالکل صحیح ہے اور

شریعت کے مطابق ہے۔ ایسے سوال و جواب پڑھیے!!

سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ -----
 لڑکی حنفی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اس کا شوہر غیر مقلد
 ہے اور وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم مردوں کی طرح نماز
 پڑھا کرو! عورتوں کی نماز کا طریقہ مردوں کی نماز کے طریقے
 کے مطابق ہے، کیونکہ عورتوں کی نماز کا طریقہ مردوں سے
 جدا ہونا ثابت نہیں ہے، اب آپ بتائیے کہ حنفی لڑکی کو
 شوہر کے حکم کے مطابق اپنی نماز مردوں کی طرح پڑھنی چاہیے
 یا نہیں؟ اور حنفی بیوی کو غیر مقلد شوہر کا مذکورہ حکم ماننا
 ضروری ہے یا نہیں؟

اور نیز حنفی مذہب میں عورت کی نماز کا طریقہ مردوں
 کی نماز کے طریقے سے جدا ہونا احادیث سے ثابت ہے یا
 نہیں؟ مفصل اور مدلل جواب دیکر مطمئن فرمائیں!

جزاکم اللہ تبارکاً

احقر عبد اللہ سلیم۔ دھر کی سندھ

البواب حادہ او مصلیا:-

مذکورہ صورت میں اہل حدیث شوہر کا اپنی حنفی بیوی کو مردوں کے طریقہ سے نماز پڑھنے پر مجبور کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ عورتوں کی نماز کا طریقہ بالکل مردوں کی نماز کی طرح ہونا صراحتاً ثابت نہیں بلکہ خواتین کا طریقہ نماز مردوں کے طریقہ سے جدا ہونا بہت سی احادیث اور آثار صحابہ و تابعین سے ثابت ہے اور چاروں ائمہ فقہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ اس پر متفق ہیں تفصیل ذیل میں ہے:

① عن ابن عمر رضی اللہ عنہ انہ سئل کیف کان النساء یصلین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کن یتربصن ثم امرن ان یحتقرن۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کس طرح نماز پڑھا کرتی تھیں تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے چار زانو ہو کر بیٹھتی تھیں پھر انہیں حکم دیا کہ خوب سمٹ کر نماز ادا کریں۔

(جامع المسانید صفحہ ۳۰۰ ج ۱)

② وعن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال۔

قال لی رسول الله صلی الله علیہ وسلم یا وائل
بن حجر! اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذ
نیک والمرأة تجعل یدیها حذاء ثدیها۔

ترجمہ: حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھلایا تو فرمایا کہ
اے وائل بن حجر! جب تم نماز شروع کرو تو اپنے ہاتھ کانوں
تک اٹھاؤ اور عورت اپنے ہاتھ چھاتیوں تک اٹھائے۔

(مجمع الزوائد ۱۰۳-۱۰۴ ج ۲)

② عن یزید ابن ابی حبیب ان رسول الله
صلی الله علیہ وسلم مر علی امرأتین تصیلیان
فقال اذا سجدتما ففما بعض اللحم الی الارض فان
المرأة لیست فی ذالک كالرجل۔

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے
گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
کو دیکھ کر فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کے بعض
حصوں کو زمین سے چمٹا دو اس لیے کہ اس میں عورت مرد کے
مانند نہیں ہے (السنن للبیہقی صفحہ ۲۲۳ ج ۲- اعلیٰ السنن، بحوالہ
مرا سیل ابی داؤد صفحہ ۱۹ ج ۳)

④ عن عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلست المرأة فی الصلاة وضعت فخذها علی فخذها الاخری و اذا سجدت الصقت بطنها فی فخذیها کاستر ما یكون لها و ان اللہ تعالیٰ ینظر الیہا و یقول یا ملئکتی اشهدکم انی قد غفرت لہا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کے دوران جب عورت بیٹھے تو اپنی ایک ران کو دوسری ران پر رکھے اور جب سجدہ میں جائے تو اپنے پیٹ کو اپنی دونوں رانوں سے ملا لے اس طرح کہ اس سے زیادہ سے زیادہ ستر ہو سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتو! تم گواہ رہو میں نے اس عورت کی بخشش کر دی۔ (بیہقی صفحہ ۲۲۳ ج ۲ کنز العمال صفحہ ۵۳۹ ج ۷)

⑤ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء۔

ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ (اگر نماز کے دوران کوئی ایسا امر پیش آجائے جو نماز میں خارج ہو تو) مردوں کیلئے یہ ہے کہ وہ تسبیح کہیں اور عورتیں صرف تالی بچائیں، (ترمذی صفحہ ۸۵ سعید کمپنی مسلم شریف صفحہ ۱۸۱ ج ۱)

⑥ قال ابو بکر بن ابی شیبہ سمعت عطاء سئل عن المرأة كيف ترفع يديها في الصلاة قال جذو ثدييها (وقال ايضا بعد اسطر) لا ترفع بذلك يديها كالرجل و اشار فخفض يديه جدا و جمعها اليه جدا و قال ان للمرأة هيئة ليست للرجل۔

ترجمہ: امام بخاری کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سنا کہ ان سے عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ نماز میں ہاتھ کیسے اٹھائے تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی چھاتیوں تک، اور فرمایا نماز میں اپنے ہاتھوں کو اس طرح نہ اٹھائے جس طرح مرد اٹھاتے ہیں اور انہوں نے اس بات کو جب اشارہ سے بتلایا تو اپنے ہاتھوں کو کافی پست کیا اور ان دونوں کو اچھی طرح ٹھایا اور فرمایا کہ نماز میں عورت کا طریقہ مردوں کی طرح نہیں ہے۔ (المصنف لابن بکر بن ابی شیبہ، صفحہ ۲۳۹ ج ۱)

④ حدثنا ابوالاحوص عن ابى اسحاق و
عن الحارث عن على رضى الله قال اذا سجدت
المرأة فلتحتقر ولتضم فخذیها۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا جب
عورت سجدہ کرے تو سرین کے بل بیٹھے اور اپنی رانوں کو
ملا لے۔ (بیہقی صفحہ ۲۲۳ ج ۲)

⑧ عن ابن عباس رضى الله عنه انه سئل

عن صلاة المرأة فقال تجتمع و تختفر
ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عورت کی نماز کے
مستعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ (سب اعضاء کو) ملا لے اور سرین
کے بل بیٹھے۔

مذکورہ بالا احادیث اور آثار صحابہ و تابعین سے عورتوں
کی نماز کا طریقہ مردوں کی نماز سے واضح طور پر مختلف ہونا
ثابت ہوا اب اس بارے میں ائمہ فقہ کا مسلک ملاحظہ فرمائیں۔
وفى مذهب الحنفية؛ و أما فى النساء فاتفقوا
على ان السنة لهن وضع اليدين على الصدر
استرلها كما فى البناية وفى المنية المرأة
تضعهما تحت ثدييها (صفحہ ۱۵۶ ج ۲ السعاية)

والمرأة تنخفض في سجودها و تلتزق
 بطنها بفخذيها لان ذلك استر لها (وفى
 موضع آخر) و ان كانت امرأة جلست على
 اليثها اليسرى و اخرجت رجلها من الجانب
 الايمن لانه استر لها الخ (صفحة ١١١ ج ١
 هداية)

و فى مذهب المالكية نذب مجافاة اى
 مباعدة (رجل فيم) اى سجود (بطنه فخذيه)
 فلا يجعل بطنه عليها و مجافاة (مرفقيه ركبتيه)
 اى عن ركبتيه و مجافاة ضبعيه اى مافوق
 المرفق الى الابط جنبه اى عنهما فجافاة
 وسطاً فى الجميع واما المرأة فتكون منضمة فى
 جميع احوالها (الشرح الصغير للدردير
 المالكي (٣٢٩ ج ١)

و فى مذهب الشافعية: قال النوذى! يسن
 ان ايجافى مرفقيه عن جنبه ويرفع بطنه عن
 فخذيه وتنضم المرأة بعضها الى بعض (وقال بعد
 اسطر) روى البراء بن عازب رضى الله عنهما

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد جنح (و روی جنحی) (والجنح الخاوی) و ان كانت امرأة ضمت بعضهما الی بعض لان ذالک استرلها (شرح المہذب صفحہ ۲۰۲ ج ۲) و فی مذهب الحنابلہ و فی المغنی و ان صلت امرأة بالنساء قامت معهن فی الصف وسطا قال ابن قدامة فی شرحہ اذا ثبت هذا فانها اذا صلت بهن قامت فی وسطهن لاتعلم فیہ خلافاً بین من رای لها ان تومهن ولان المرأة یستحب لها التستر ولذالک لا یستحب لها التجا فی الخ (۲۰۲ ج ۲)

مذکورہ بالا احادیث طیبہ، آثار صحابہ و تابعین اور چاروں مذاہب فقہ حقہ کے حضرات فقہاء کرام کی عبارات سے جو عورتوں کی نماز کا سنون طریقہ ثابت ہوا وہ مردوں کے طریقہ نماز سے جدا ہے، عورتوں کے طریقہ نماز میں زیادہ سے زیادہ پردہ اور جسم سمیٹ کر ایک دوسرے سے ملانے کا حکم ہے اور یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے آج تک اس امت میں مستفق علیہ اور عملاً متواتر ہے۔ آج تک

کسی صحابی یا تابعی یا دیگر فقہاء است کا کوئی ایسا فتویٰ نظر نہیں آیا جس میں عورتوں کی نماز کو مردوں کی نماز کے مطابق قرار دیا ہو نیز خود اکابر اہل حدیث حضرات اس مسئلہ میں مذکورہ بالا عبارات کے مطابق فتویٰ دیتے رہے ہیں۔ چنانچہ مولانا عبدالجبار بن عبداللہ غزنوی (جو بانی جامعہ ابی بکر گلشن اقبال کراچی کے دادا ہیں) اپنے فتاویٰ میں وہ حدیث جو ہم نے کنز العمال اور بیہشتی کے حوالہ سے نقل کی ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔

”اور اسی پر تعامل اہل سنت و مذاہب اربعہ وغیرہ چلا آیا ہے۔“

نیز اس کے بعد مختلف کتب مذاہب اربعہ سے حوالہ نقل کرنے کے بعد آخر میں نتیجہ فرماتے ہیں کہ ”عرض یہ کہ عورتوں کا انضمام (اکٹھی ہو کر) اور انضمام (سمٹ کر اور چمٹ کر) احادیث و تعامل جمہور اہل علم از مذاہب اربعہ وغیر ہم سے ثابت ہے اور اس کا منکر کتب حدیث اور تعامل اہل علم سے بے خبر ہے واللہ اعلم حرہ عبدالجبار عفی عنہ (فتاویٰ غزنویہ ص ۲۷-۲۸، فتاویٰ علمائے حدیث ص ۱۳۹ ج ۳)

جہاں تک اہل حدیث حضرات کے دعویٰ کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں نہ تو ان کے پاس کوئی آیت قرآنی ہے اور نہ کوئی حدیث اور نہ ہی کسی خلیفہ راشد کا فتویٰ البتہ اگر وہ حضرات ام درواہ کا اثر استدلال میں پیش کریں جو یہ ہے کہ

عن مکحول ان ام الدرداء كانت تجلس

فی الصلاة كجلسة الرجل

ترجمہ: حضرت ام درواہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں (الصف لابن ابی شیبہ ص ۲۱۱ ج ۱) تو اس اثر کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اس اثر سے استدلال کرنا کسی وجہ سے درست نہیں۔

① پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگرچہ حافظ مزنی نے ان کو صحابیہ کہا ہے لیکن دوسرے محدثین و ناقدین نے ان کو تابعیہ شمار کیا ہے لہذا یہ صحابیہ نہیں تابعیہ ہیں اور ایک تابعی کا عمل اگرچہ اصول کے مخالف نہ بھی ہو تب بھی اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

و فی الفتح و عمل التابعی بمفرده و لو لم یخالف لایجتج بہ (ص ۲۵۲ ج ۲)

② بالفرض اگر ان کو صحابیہ بھی مان لیا جائے تو یہ ان

صحابیہ کی اپنی رائے ہے اور نہ ہی ان صحابیہ نے کسی اور کو اس کی دعوت دی ہے اور نہ ہی انہوں نے اس فعل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول و فعل اور نہ ہی کسی خلیفہ راشد کا فتویٰ نقل کیا ہے، لہذا عورتوں کی نماز کے سلسلہ میں اس کے عملی تواتر کے خلاف اس رائے کی پوزیشن ایسی ہی ہے جیسا کہ قرآن حکیم کی متواتر قرأت کے خلاف شاذ قرأت اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان شاذ قرأت کیلئے متواتر قرآن حکیم کی تلاوت نہیں چھوڑتا اور نہ ہی کسی دوسرے مسلمان کو اس کی دعوت دیتا ہے۔

③ نیز اگر اس اثر کے الفاظ پر غور سے نظر ڈالی جائے تو اس سے جمہور کے قول کی تائید ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں ام درداہ کے ہیئت جلوس کو مرد کے ہیئت جلوس سے تشبیہ دی گئی ہے جس سے یہ بات بھی منبوی واضح ہوتی ہے کہ ام درداہ تو مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں لیکن دوسری صحابیات اور خواتین کا طریقہ نماز مردوں سے مختلف تھا جس کا احادیث بالا میں ذکر ہوا۔

④ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ اگر یہ اثر قابل استدلال نہیں تو پھر امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح بخاری میں کیوں ذکر کیا

ہے تو یہ شبہ بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ امام بخاری نے اس اثر کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اس سے عورتوں کی نماز کے طریقہ پر استدلال کیا جائے بلکہ صرف اس بات کی تقویت کیلئے ذکر کیا ہے کہ مردوں کے جلوس کی کیفیت نماز میں کیا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر قسح الباری میں رقمطراز ہیں:

"وَعَرَفَ مِنْ رِوَايَةِ مَكْحُولِ بْنِ الْمَدْرَدَاءِ

بِامِّ السَّدَاءِ الصَّغْرَى التَّابِعِيَّةِ لَا الْكَبْرَى الصَّحَابِيَّةِ

لِأَنَّهَا أَدْرَكَ الصَّغْرَى وَ لَمْ يَدْرِ الْكَبْرَى اَثَرُ امِّ

الْمَدْرَدَاءِ لِيَحْتَجَّ بِهَا لِلتَّقْوِيَةِ الْخَبْرُ (ص ۲۵۲ ج ۱)

نیز اگر یہ حضرات "صلوا اکما راہتمونی اصلی" سے استدلال

کریں کہ عورتوں کی نماز مردوں کے مطابق ہے تو یہ استدلال

بھی صحیح نہیں اول تو اس جملہ کا سیاق و سباق ایک خاص واقعہ

ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک خاص وفد حضور اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں بیس دن قیام کیلئے آیا تھا وہاں ہی پر

آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں ان میں سے ایک نصیحت

یہ بھی تھی کہ

"صلوا اکما راہتمونی اصلی"

بہر حال اگر اس جملہ کو سیاق و سباق سے ہٹ کر

دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حدیث کی عمومیت میں مرد و عورت سمیت پوری امت شریک ہے اور پوری امت پر لازم ہے کہ جو طریقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ہے وہی طریقہ پوری امت کا ہو لیکن یہ واضح ہو کہ اس عمومیت پر عمل اس وقت تک ہی ضروری ہے جب تک کوئی فصرعی دلیل اس کے معارض نہ ہو اور اگر کوئی دلیل خصوص کی بعض عمل یا افراد میں اس حکم کے معارض ہو تو اس دلیل خصوص کی وجہ سے وہ بعض افراد یا وہ عمل اس امر کی تکمیل سے مستثنیٰ ہوں گے۔ چنانچہ ضعفاء اور مریض ان احادیث سے جن میں ان کے لیے تخفیف کی گئی ہے اور عورتیں ان تمام احادیث سے جن میں ان کو ستر پوشی اور اختفاء کا حکم دیا گیا ہے اس حکم سے مستثنیٰ ہوں گے۔ لہذا مستثنیات کی موجودگی میں اس جملہ سے عورت اور مرد کی نماز میں مجموعی کیفیت اور طریقہ پر مطابقت کا استدلال درست نہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر الشافعی نے اس بات کو فتح الباری میں ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ:

”و هذا اذا اخذ مفرداً عن ذكر سببه
وسياقه اشعر بانہ خطاب للامة بان يصلوا كما

كان فيقوى الاستدلال به على كل فعل ثبت انه فعله في الصلاة لكن هذا الخطاب انما وقع لمالك بن الحويرث و اصحابه كان يوقعوا الصلاة على الوجه الذي راوه صلى الله عليه وسلم يصليه نعم يشار بهم في الحكم جميع الامة بشرط ان يثبت استمراره صلى الله عليه وسلم على فعل ذلك الشئى المستدل به دائما حتى يدخل تحت الامر و يكون واجبا و بعض ذلك مقطوع باستمراره عليه و اماما لم يدل دليل على وجوده تلك الصلوات التى تعلق الامر بايقاع الصلاة على صفتها فلا نحكم بتناول الامر فتح (ص ۲۳۷ ج ۱۳)

لہذا احادیث بالا اور فقہاء امت کی تصریحات کے مطابق سنت یہ ہے کہ عورت سٹ کر سجدہ کرے اور سٹ کر بیٹھے، ستر کا زیادہ اہتمام کرے، ہاتھ سینے پر رکھے ان سب باتوں میں عورت کی نماز مرد کی نماز سے مختلف ہے اور یہی حق ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔

خواتین کا طریقہ نماز

ذیل میں خواتین کی نماز کا صحیح طریقہ تحریر کیا جاتا ہے، خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نماز اس طریقہ سے ملا کر دیکھیں، اور بار بار دیکھتی رہیں اور ہر نماز اس طریقہ کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں اور بیویوں کو بھی اس طریقہ کے مطابق نماز پڑھنے کی مشق کرائیں تاکہ سب کی نمازیں صحیح ہو جائیں۔

نماز شروع کرنے سے پہلے

یہ باتیں یاد رکھیے اور ان پر عمل کا اطمینان کر لیجیے:

- ① آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہونا ضروری ہے۔
- ② آپ کو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، اور آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ گردن کو جھکا کر ٹھوڑی سینے سے ٹکالینا مکروہ ہے، اور بلاوجہ سینے کو جھکا کر کھڑا ہونا بھی درست نہیں، لہذا اس طرح سیدھی کھڑی ہوں کہ نظر سجدے کی جگہ پر رہے۔

③ آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی جانب رہے اور دونوں پاؤں سیدھے قبلہ رخ رہیں (پاؤں کو دائیں

ہائیں ترچا رکھنا خلاف سنت ہے) دونوں پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہئیں۔

③ دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم چار انگلی کا فاصلہ رکھنا چاہئے۔ (امداد الاحکام)

⑤ خواتین کسی موٹی اور بڑی چادر سے اپنے سارے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لیں، جس میں سر، سر کے بال، گردن بازو وغیرہ سب اچھی طرح چھپ جائیں کیونکہ خواتین کو سارا بدن چھپانا فرض ہے، پیٹھ، پیٹھ، کمر، سر، سینہ، بازو، ہاتھ، پنڈلیاں، مونڈھے، گردن وغیرہ سب ڈھکے رہیں، ہاں اگر چہرہ یا قدم یا گٹھوں تک ہاتھ کھلے رہیں تو نماز ہو جائے گی کیونکہ یہ تینوں چیزیں ستر سے مستثنیٰ ہیں اور اگر یہ بھی ڈھکی رہیں تب بھی نماز ہو جائے گی۔

نماز کے لیے ایسا باریک دوپٹہ استعمال کرنا جس میں سر، گردن، حلق اور حلق کے نیچے کا بہت سا حصہ نظر آتا ہے، اسی طرح بازو کھنٹیاں اور کلنیاں نہ چھپیں یا پنڈلیاں کھلی رہیں تو ایسی صورت میں نماز بالکل نہیں ہوگی، لہذا نماز کے وقت سارے جسم کو چھپانے کا خاص اہتمام کریں۔

- ⑥ اگر نماز کے دوران چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے سوا جسم کا کوئی عضو بھی چومتائی کے برابر اتنی دیر کھلا رہ گیا جس میں تین مرتبہ "سبحان ربی العظیم" کہا جاسکے تو نماز ہی نہیں ہوگی اور اس سے کم کھلا رہ گیا تو نماز ہو جائے گی، مگر گناہ ہوگا۔
- ⑦ ایسے کپڑے پہن کر نماز میں کھڑی ہونا مکروہ ہے جنہیں پہن کر انسان بوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو۔

نماز شروع کرتے وقت

- ① دل میں نیت کر لیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہی ہوں، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں۔
- ② دونوں ہاتھ دوپٹے سے باہر نکالے بغیر کندھوں تک اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں۔ خواتین کا نون تک ہاتھ نہ اٹھائیں۔
- ③ مذکورہ بالا طریقہ پر ہاتھ اٹھاتے وقت "اللہ اکبر" کہیں پھر دونوں ہاتھ سینے پر بغیر حلقہ بنا لے اس طرح رکھیں کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر آجائے، خواتین کو مردوں کی طرح ناف پر ہاتھ نہ باندھنے چاہئیں۔

کھڑے ہونے کی حالت میں

① اکیلے نماز پڑھنے کی حالت میں پہلی رکعت میں پہلے سبحانک اللہم آخر تک پڑھیں، اس کے بعد اعدوذائد من الشیطان الرجیم پڑھیں اس کے بعد "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں اور جب "وللصّٰلٰتین" کہیں اس کے فوراً بعد "آمین" کہیں اس کے بعد "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھ کر کوئی سورت پڑھیں یا کہیں سے بھی تین آیتیں پڑھیں۔

② اگر اتفاقاً کسی امام کے پیچھے ہوں تو صرف "سبحانک اللہم" لے کر پڑھ کر خاموش ہو جائیں اور امام کی قراءت کو دھیان لگا کر سنیں، اگر امام زور سے نہ پڑھ رہا ہو تو زبان ہلانے بغیر دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کا دھیان کیے رکھیں۔

③ جب خود قرأت کر رہی ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بہتر یہ ہے کہ ہر آیت پر رک کر سانس توڑ دیں، پھر دوسری آیت پڑھیں، کسی کسی آیتیں ایک سانس میں نہ پڑھیں، مثلاً "الحمد للہ رب العلمین" پر سانس توڑ دیں، پھر "الرحمن الرحیم" پر پھر "مالک یوم الدین" پر۔ اسی طرح پوری

سورہ فاتحہ پڑھیں، لیکن اس کے بعد کی قرأت میں ایک سانس میں ایک سے زیادہ آیتیں بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، اور خواتین کو ہر نماز میں الحمد شریف اور سورہ وغیرہ ساری پیریزیں آہستہ آواز سے پڑھنی چاہئیں۔ (ہشتی زیور)

③ بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ دیں، جتنے سکون کے ساتھ کھڑی ہوں اتنا ہی بہتر ہے، اگر کھجلی وغیرہ کی ضرورت ہو تو صرف ایک ہاتھ استعمال کریں اور وہ بھی صرف سنت ضرورت کے وقت اور کم سے کم۔

⑤ جسم کا سارا زور ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو اس طرح چھوڑ دینا کہ اس میں حم آجائے نماز کے ادب کے خلاف ہے، اس سے پرہیز کریں، یا تو دونوں پاؤں پر برابر زور دیں، یا ایک پاؤں پر زور دیں تو اس طرح کہ دوسرے پاؤں میں حم پیدا نہ ہو۔

⑥ جمانی آنے لگے تو اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں۔

⑦ کھڑے ہونے کی حالت میں نظریں سجدے کی جگہ پر رکھیں، ادھر ادھر یا سامنے دیکھنے سے پرہیز کریں۔

رکوع میں

رکوع میں جاتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں:

① جب قیام سے فراغت ہو جائے تو رکوع کرنے کے لیے "اللہ اکبر" کہیں جس وقت رکوع کرنے کے لیے جھکیں، اسی وقت تکبیر کہنا بھی شروع کر دیں اور رکوع میں جاتے ہی تکبیر ختم کر دیں۔

② خواتین رکوع میں معمولی جھکیں کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، مردوں کی طرح خوب اچھی طرح نہ جھکیں۔ (شامی)

③ خواتین گھٹنوں پر ہاتھ کی انگلیاں ملا کر رکھیں، مردوں کی طرح کشادہ کر کے گھٹنوں کو نہ پکڑیں اور گھٹنوں کو (ذرا آگے) کو جھکالیں اور اپنی کہنیاں بھی پہلو سے خوب ملا کر رکھیں۔ (در مختار)

④ کم از کم اتنی دیر رکوع میں رکھیں کہ اطمینان سے تین مرتبہ "سبحان ربی العظیم" کہا جاسکے۔

⑤ رکوع کی حالت میں نظریں پاؤں کی طرف ہونی چاہئیں۔

② دونوں پاؤں پر زور برابر رہنا چاہیے، اور دونوں پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے کے قریب رہنے چاہئیں۔

رکوع سے کھڑے ہوتے وقت

① رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اس قدر سیدھی ہو جائیں کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے۔

② اس حالت میں بھی نظر سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے۔

③ بعض خواتین کھڑے ہوتے وقت کھڑی ہونے کے بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کرتی ہیں اور جسم کے جھکاؤ کی حالت ہی میں سجدے کے لیے چلی جاتی ہیں ان کے ذمے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے لہذا اس سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں، جب تک سیدھی ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے، سجدے میں نہ جائیں۔

سجدے میں جاتے وقت

سجدے میں جاتے وقت اس طریقہ کا خیال رکھیں کہ:

① خواتین سینہ آگے کو جھکا کر سجدے میں جائیں، پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھیں، گھٹنوں کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر

رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی۔

② سجدے میں خواتین خوب سمٹ کر اور دیک کر اس طرح سجدہ کریں کہ پیٹ رانوں سے بالکل مل جائیں، بازو بھی چھانوں سے ملے ہوئے ہوں، نیز پاؤں کو کھڑا کرنے کے بجائے انہیں دائیں طرف نکال کر بچھاویں، جہاں تک ہو سکے انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف رکھیں۔

③ خواتین کو کھنڈیوں سمیت پوری یا نہیں بھی زمین پر رکھ دینی چاہئیں۔

④ سجدے کی حالت میں گم از کم اتنی دیر گزاریں کہ تین مرتبہ "سبحان ربی الاعلیٰ" اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں، پیشانی ٹیکتے ہی فوراً اٹھا لینا منع ہے۔

دونوں سجدوں کے درمیان

① ایک سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں، ذرا سا سر اٹھا کر سیدھے ہوئے بغیر دوسرا سجدہ کر لینا گناہ ہے اور اس طرح کرنے سے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔

② خواتین پہلے سجدہ سے اٹھ کر پائیں کو لے کر

بیٹھیں، اور دونوں پاؤں دائیں طرف کو نکال دیں اور دائیں
پہنڈلی پر رکھیں، اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ لیں اور انگلیاں
خوب ملا کر رکھیں۔

(۳) بیٹھنے کے وقت نظریں اپنی گود کی طرف ہونی
چاہئیں۔

(۴) اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں کم از کم ایک مرتبہ
”سبحان اللہ“ کہا جاسکے اور اگر اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں آٹھ
”غزلی“ اور ”عزلی“ اور ”سبزی“ اور ”جبرنی“ اور ”عبدنی“ اور ”قزی“ پڑھا جاسکے تو
بہتر ہے، لیکن فرض نمازوں میں یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں
نفلوں میں پڑھ لینا بہتر ہے۔

دوسرا سجدہ اور اس سے اٹھنا

(۱) دوسرے سجدے میں بھی اس طرح جائیں کہ پہلے

دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک پھر پیشانی۔

(۲) سجدے کی ہیئت وہی ہونی چاہیے جو پہلے سجدے میں

بیان کی گئی۔

(۳) سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی زمین سے

اٹھائیں، پھر ناک، پھر ہاتھ پھر گھٹنے۔

(۴) اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہ لینا بہتر ہے، لیکن اگر جسم بیماری ہو یا بیماری یا بڑھا پے کی وجہ سے مشکل ہو تو سہارا لینا بھی جائز ہے۔

(۵) اٹھنے کے بعد ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھیں۔

قعدہ میں

(۱) قعدے میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہوگا جو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔

(۲) التعمات پڑھتے وقت جب "اشھد ان لا" پر پہنچیں تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کریں اور "اللا اللہ" پر گرا دیں۔

(۳) اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنائیں، چھٹلی اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کر لیں، اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائیں کہ انگلی قبیلہ کی طرف جھکی ہوئی ہو، بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہ اٹھانی چاہیے۔

(۴) "اللا اللہ" کہتے وقت شہادت کی انگلی تو نیچے کر لیں لیکن باقی انگلیوں کی جو ہیئت اشارے کے وقت بنانی تھی، اس کو آخر تک برقرار رکھیں۔

سلام پھیرتے وقت

① دونوں طرف سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑیں کہ پیچھے بیٹھنے والی عورت کو آپ کے رخسار نظر آجائیں۔

② سلام پھیرتے وقت نظریں کندھے کی طرف ہونی چاہئیں۔

③ جب دائیں طرف گردن پھیر کر "السلام علیکم ورحمۃ اللہ" کہیں تو یہ نیت کریں کہ دائیں طرف جو فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہی ہیں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف موجود فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کریں۔

دعا کا طریقہ

① دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اتنے اٹھائے جائیں کہ وہ سینے کے سامنے آجائیں۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ ہو، نہ ہاتھوں کو بالکل ملائیں اور نہ دونوں کے درمیان فاصلہ رکھیں۔

② دعا کرتے وقت ہاتھوں کے اندرونی حصے کو چہرے

کے سامنے رکھیں۔

ایک مسئلہ

عورتوں کا جماعت کرنا مکروہ ہے، ان کے لیے ایکلے نماز پڑھنا ہی بہتر ہے البتہ اگر گھر کے محرم افراد گھر میں جماعت کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے میں کچھ حرج نہیں لیکن ایسے میں مردوں کے بالکل پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے، برابر ہرگز کھڑی نہ ہوں۔

(اخوذ از نمازیں سنت کے مطابق ادا کیجیے و نمازیں درست کیجئے)

فضیلت نماز کی چھل حدیث

① حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ

نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور

قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔

② نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے

میں اللہ سے ڈرو۔

③ آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔

④ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر

کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ
مومن ہے۔

⑤ حق تعالیٰ شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے
افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض
کرنے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی
رکوع میں ہے کوئی سجدہ میں۔

⑥ نماز دین کا ستون ہے۔

⑦ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔

⑧ نماز مومن کا نور ہے۔

⑨ نماز افضل جہاد ہے۔

⑩ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ
اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ
جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔

⑪ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد
کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔

⑫ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی
اگ سجدہ کی جگہ کو نہیں کھاتی۔

۱۳) اللہ نے سجدہ کی جگہ کو آگ پر حرام فرمایا ہے۔
 ۱۴) سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔

۱۵) اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کو سجدہ میں پڑا ہوا دیکھیں کہ پیشانی زمین پر گر رہا ہے۔

۱۶) اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدہ میں ہوتا ہے۔

۱۷) جنت کی کنجیاں نماز میں۔

۱۸) جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔

۱۹) نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔

۲۰) نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ ہے بدن میں۔

(۲۱) نماز دل کا نور ہے جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے (نماز کے ذریعہ سے) بنالے۔

(۲۲) جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے دو یا چار رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالیٰ شانہ معاف فرمادیتے ہیں۔

(۲۳) زمین کے جس حصہ پر نماز کے ذریعہ سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔

(۲۴) جو شخص دور رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ وہ دعا قبول فرمالیتے ہیں خواہ فوراً ہو یا کسی مضرت سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور فرماتے ہیں۔

(۲۵) جو شخص تنہائی میں دور رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اُس کو جسم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔

(۲۶) جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔

(۲۷) جو پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا رہے ان کے رکوع و سجد اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے جنت اُس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اُس پر حرام ہو جاتی ہے۔

(۲۸) مسلمان جب تک پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اُس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہانے کی طرح کرنے لگتا ہے۔

(۲۹) سب سے افضل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔

(۳۰) نماز ہر مستی کی قربانی ہے۔

(۳۱) اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔

(۳۲) صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔

(۳۳) ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی چار رکعتوں کا۔

(۳۴) ظہر سے پہلے چار رکعتیں تہجد کی چار رکعتوں کے

برابر شمار ہوتی ہیں۔

(۳۵) جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمتِ الہیہ اس کی طرف مستوج ہو جاتی ہے۔

(۳۶) افضل ترین نماز آدمی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔

(۳۷) میرے پاس حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں آخر ایک دن مرنا ہے اور جس سے چاہے محبت کریں آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں (بھلا یا بُرا) اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے استغناء ہے۔

(۳۸) اخیر رات کی دو رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو اُمت پر فرض کر دیتا۔

(۳۹) تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے، تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔

(۳۰) حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدمؑ کی اولاد تو دن کے شروع میں چار رکعتوں سے عاجز نہ بن میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ (فضائل نماز)
 وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم محمد
 و آلہ و اصحابہ اجمعین۔

تمت

عبدالرؤف سکھروی عفا اللہ عنہ
 ۲۰ / شعبان ۱۴۱۲ھ